




- III nivå 2
- urdu / bokmål
- Samrina Sana
- Vusi Malindi
- Ursula Nafula



Avgjørlese



Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreført midlert av Barnebøker for Norge (barnebøker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkес i Norge.

Overrett av: Samrina Sana (ur), Espen Stranger-  
Illustrert av: Vusi Malindi  
Skrevet av: Ursula Nafula


## Avgjørlese

[barnebøker.no](http://barnebøker.no)

# Barnebøker for Norge



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no>  
Navngivelse 4.0 Internasjonal Lisens.  
Dette verket er lisensiert under en Creative Commons



یرے گاں میں بہت سے مسائل تھے۔ ہم نے ایک نل  
سے پانی بھر نے کے لیے ایک لمبی قطار بنائی۔

...

Landsbyen min hadde mange problemer. Vi  
stilte oss på en lang rekke for å hente vann fra  
én pumpe.

Vi ventet på mat som andre hadde gitt oss.

...

-اے


لے! دیگر ترکه دے جو گھر، سے!





چوروں کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کو جلدی بند کر دیا۔  
...

Vi låste husene våre tidlig på grunn av tyver.



ہم سب نے ایک آواز سے کہا، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہو گا۔ اس دن سے ہم نے اپنے مسائل کو حل کر نے کے لیے ساتھ مل کر کام کیا۔  
...


Vi ropte alle sammen med én stemme: "Vi må forandre livene våre." Fra den dagen samarbeidet vi for å løse problemene våre.

skal grave en brønn."

En annen mann reiste seg og sa: "Menne

...


-اَنْتُ مُسْلِمٌ بِهِ رَبِّي اَنَا اَنْتَ رَبُّهُمْ لَكُمُ الْحُكْمُ وَلَكُمُ الْحُكْمُ




Mange barn droppet ut av skolen.

...

-أَنْتُ مُسْلِمٌ بِهِ رَبِّي اَنَا اَنْتَ رَبُّهُمْ لَكُمُ الْحُكْمُ وَلَكُمُ الْحُكْمُ





زوجان لڑکیوں نے دیگر گاؤں میں ذکر انی کے طور پر کام کیا۔


...

Unge jenter jobbet som hushjelper i andre landsbyer.

ایک عورت نے کہا، 'خواتین کھانا نے میں اضافہ کر نے میں شمولیت اختیار کر سکتی ہیں۔'

...

En kvinne sa: "Kvinnene kan bli med meg og dyrke mat."



Unges gutter drev rundt i landsbyen mens  
andre jobbet på gårdenne til folk.

...


-*وَلِمَّا مَرَأَهُمْ أَرَى عَوْنَاطِرَهُمْ*  
*وَأَرَى مِنْهُمْ مَا لَمْ يَرَوْا*




Atteårigje juma, som satt på stammen til et tre,  
ropte: „Jeg kan hjelpe til med å samle soppel.“

...

-*وَلِمَّا مَرَأَهُمْ أَرَى عَوْنَاطِرَهُمْ*  
*وَأَرَى مِنْهُمْ مَا لَمْ يَرَوْا*






جب ہوا چلی فالتو کا گز درخوں اور جگلوں پر لمک گئے۔

...

Når vinden blåste, ble papirbiter hengende fast  
på trær og gjerder.



یرے والدکھڑے ہو گئے اور کہا، ہم اپنی مسئلہات کو حل  
کرنے کے لئے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔

...

Faren min reiste seg og sa: "Vi må samarbeide  
for å løse problemene våre."

Folk samlet seg under et stort tre og lyttet.

...

-اے

ای عربی، اے عربی ترکی، اے عربی



Folk skar seg på glasskar som folk hadde  
slengt fra seg.

...

-اے عربی ترکی، اے

اے عربی، اے عربی ترکی، اے عربی





اور ایک دن نل سوکھ گیا اور ہمارے بہترن خالی ہو گئے۔

...

Så en dag tørket vannet i pumpa opp og beholderne våre ble tomme.

یرے باپ نے گھر گھر جا کے لوگوں کو گاؤں کے اجلاس میں شرکت کر نے کے لیے کہا۔

...

Faren min gikk fra hus til hus for å be folk delta på et folkemøte.

